

Manus LÆR Å BRUKE NETTBRETT

اس تحریر کو پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن 'ٹیبلٹ/استعمال کرنا سیکھیں' کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ یہاں دیے گئے نقاط پاور پوائنٹ کے نقاط کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نقطہ 1 کا تعلق پاور پوائنٹ میں سلائیڈ 1 (صفحہ 1) سے ہے اور نقطہ 2 کا تعلق سلائیڈ 2 سے ہے، اور اسی طرح آگے چل رہا ہے۔ آپکو یہی متن ہر سلائیڈ کے نیچے نوٹس میں بھی ملے گا۔

جس تحریر کو موٹے فونٹ میں دکھایا گیا ہے، وہ کورس کروانے والے استاد کیلئے تبصرے ہیں۔ ترجمے فونٹ میں سرخیاں دی جا رہی ہیں۔ باقی تحریر کو اونچی آواز سے پڑھا جا سکتا ہے یا استاد جو سکھا رہا ہو، اس میں رہنمائی کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

متن

1. پڑھانا شروع کرنے سے پہلے کورس کے شرکاء کے ساتھ تعلیمی اہداف پر بات کریں۔ اس طرح ان کیلئے اہم

ترین معلومات پر توجہ دینا اور انہیں یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔

2. ٹیبلٹ کو آن کرنا اور ڈیسک ٹاپ سے واقفیت حاصل کرنا

3. ٹیبلٹ استعمال کرنے کیلئے پہلے اسے آن کرنا پڑتا ہے۔ ان بٹن آپکو ٹیبلٹ کے کنارے پر ملے گا۔ یہ بٹن چمکیلا ہو

سکتا ہے یا اس کے اوپر یا برابر میں ایک دائرے کے اندر لکیر بنی ہو سکتی ہے۔ آپکے ٹیبلٹ کے کنارے پر کئی

بٹن ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹھیک سے پتہ نہ ہو کہ ان بٹن کونسا ہے تو مختلف بٹنوں کو دبا کر دیکھ لیں۔ ٹیبلٹ

کو آن کرنے کیلئے بٹن کو دو سیکنڈ کے قریب دبا رکھیں۔

سب لوگوں سے اپنے اپنے ٹیبلٹ آن کرنے کو کہیں۔

4. کچھ لوگوں کو PIN کوڈ ڈالنے کو کہا جائے گا، کچھ کو "skype for å låse opp" ("کھولنے کیلئے سلائیڈ کریں")

لکھا ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی انگلی کو سکرین پر رکھ کر دائیں طرف پھیریں گے۔ مختلف ٹیبلٹس کو

کھولنے کیلئے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اپنی سکرین پر نظر آنے والی ہدایات پر عمل کریں۔

دیکھ لیں کہ سب لوگوں نے اپنا ٹیبلٹ آن کر لیا ہے۔

اگر کچھ دیر ٹیبلٹ استعمال نہ کرنے پر آپکی سکرین سیاہ ہو جائے (ٹائم آؤٹ یا وقفے کا موڈ) تو آپ ان بٹن کو

جلدی سے دبا کر اسے واپس آن کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ٹیبلٹ کھولنے کیلئے اب PIN بھی دوبارہ ڈالنا پڑے

گا یا سکرین پر انگلی پھیرنی پڑے گی۔

5. اب جو تصویر سکرین پر آ رہی ہے، وہ آپکا "skrivebord" (ڈیسک ٹاپ) ہے۔ ہر چھوٹا سا تصویری آئیکون ایک پروگرام یا ایپ ہے جو آپکے ٹیبلیٹ پر دستیاب ہے۔ مزید ایپس دیکھنے کیلئے آپ سکرین پر انگلی رکھ کر دائیں یا بائیں طرف پھیر سکتے ہیں۔
سب لوگوں سے یہ آزمانے کو کہیں۔

Kommentert [f1]: Typo rettet

6. سکرین پر سب سے اوپر ایک باریک لائن ہے جس میں کچھ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں۔ بیچ بیچ میں اس لائن کو دیکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔

7. لائن پر کسی جگہ آپ کو بیٹری کا تصویری آئیکون دکھائی دے گا۔ بیٹری دکھا رہی ہے کہ ٹیبلیٹ میں کتنی پاور (بجلی) باقی ہے۔ کچھ لوگوں کی سکرین پر بیٹری کے برابر میں ایک ہندسہ لکھا ہوتا ہے کہ کتنی پاور باقی ہے۔ جب بیٹری خالی ہونے کے قریب ہو تو اچھا ہو گا کہ ٹیبلیٹ کو چارجنگ پر لگا دیں۔ اگر آپ ٹیبلیٹ کو آن نہ کر پا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے بیٹری ختم ہو چکی ہو۔ اسے چارجنگ پر لگا دیں اور کچھ منٹ بعد دوبارہ کوشش کریں۔

واپس لائن کی طرف زیادہ تر لوگوں کی لائن پر ایک گھڑی ہو گی۔ اور اگر ٹیبلیٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو تو آپکو ایک تصویر نظر آئے گی جو چھوٹے سے دستے پنکھے جیسی ہو گی۔ ان علامات کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے جو اس پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کونسا ٹیبلیٹ ہے۔
ان لوگوں کی مدد کریں جو یہ علامات تلاش نہ کر پائے ہوں۔

8. ایپ کھولنا اور واپس ڈیسک ٹاپ پر آنا

9. کسی آئیکون پر کلک کر کے ایپ کھولیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کونسی ایپ کھولتے ہیں۔
سب لوگوں سے کہیں کہ کسی ایپ کو دبا کر کھولیں۔ جب ایپ کھل جائے گی تو پوری سکرین پر یہی نظر آئے گی۔

10. ڈیسک ٹاپ پر واپس آنے کیلئے، تاکہ آپ وہاں سے کوئی اور ایپ چن سکیں، آپ "hjem" ("ہوم") بٹن کو دبائیں گے۔ کچھ ٹیبلیٹس میں ہوم کیلئے ٹیبلیٹ کے چھوٹے رخ پر ایک بٹن ہوتا ہے۔ کچھ ٹیبلیٹس میں ہوم بٹن سکرین پر نیچے کی طرف ایک چھوٹی سی مکان کی تصویر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس پر منحصر کہ آپ نے ٹیبلیٹ کو کس رخ سے پکڑا ہوا ہے، یہ ہوم بٹن اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے لیکن اسکی شکل ہمیشہ یہی رہتی ہے۔

Manus LÆR Å BRUKE NETTBRETT

سب لوگوں سے کہیں کہ وہ بوم بٹن کو دبائیں اور واپس ڈیسک ٹاپ پر آ جائیں۔

چاہے آپ نے کوئی بھی ایپ کھولی ہو اور چاہے ٹیبلٹ کی سکرین پر کسی بھی چیز نے جگہ گھیری ہو، آپ ہمیشہ بوم بٹن کو دبا کر اس تصویر پر واپس آ سکتے ہیں جو آپ اب دیکھ رہے ہیں۔ بٹن کو استعمال کرنے سے گھبرائیں نہیں!

11. ٹیبلٹ کو آف کرنا

12. ٹیبلٹ کو آف کرنے کیلئے آپ ان بٹن کو دو سیکنڈ دبا کر رکھیں حتیٰ کہ سکرین پر کوئی تبدیلی آئے۔
سب لوگوں سے ان بٹن کو دو سیکنڈ دبا کر رکھنے کو کہیں۔

13. کچھ لوگوں کے سامنے مینو کھلے گا جس میں ایک آپشن "Skru av" ("آف کریں") ہو گا۔ "Skru av" کو دبائیں۔
کچھ لوگوں کو ("آف کرنے کیلئے سلائیڈ کریں") لکھا ملے گا۔ اس بٹن کو پکڑ کر ایک طرف کھینچیں۔ اب ٹیبلٹ آف ہو جائے گا۔

14. ختم شد